

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

ماہِ رمضان میں بہترین عمل
گناہوں سے بچنا ہے۔

(بخارالانوار جلد 96)



www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



شہزادی فاطمہ زہرا علیہا السلام نے فرمایا



وہ روزہ دار جس کی
زبان، کان، آنکھ اور اعضاء
(گناہوں سے) محفوظ نہ ہوں
اُس کا روزہ کسی کام کا نہیں۔۔

رمضان کریم

•• Ramadan Kareem ••

www.facebook.com/madrasatulqaaim

(بجارات انوار جلد 93 ص 295)



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

ماہِ رمضان المبارک میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے۔۔



رمضان کریم

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا

اگر کوئی شخص کسی عورت کو پیچھے سے اس طرح دیکھے کہ وہ اُس کے کپڑوں کے اندر اُس کی ہڈیوں کے حجم کو دیکھ سکے اور وہ روزے سے ہو تو اُسے چاہیے کہ وہ افطار کر لے۔۔
(یعنی اُس کا روزہ ہی کب ہے جو وہ یہ گناہ کر رہا ہے)

(بخاری الانوار جلد 93 ص 290)

رسولِ خدا ﷺ عورتوں کیلئے بھی ارشاد فرماتے ہیں
جب شادی شدہ عورت نامحرم مرد کو دیکھتی ہے تو
خدا کے غیض و غضب میں شدت آجاتی ہے۔۔

(وسائل الشیخہ جلد 20 ص 232)



www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا



جب تم روزہ رکھتے ہو تو لازمی ہے کہ تمہاری

آنکھیں، کان، بال اور بدن کی جلد بھی روزہ دار ہو

(یعنی ہر قسم کے گناہوں سے دوری اختیار کرنی چاہئے)

(الکافی جلد ۴)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

رَمَضَانَ

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

جو شخص ماہِ رمضان میں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے
تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُسے پلِ صراط سے
آسانی سے گزار دے گا جبکہ لوگوں کے قدم وہاں
پھسل رہے ہوں گے۔۔ (مفتاح الجنان)



www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

جو شخص اس ماہ (رمضان) میں خوش اخلاقی سے پیش آئے
تو یہ اس کے پلِ صراط سے گزرنے کا
اجازت نامہ ہوگا۔

(امالیٰ شیخ الصدوق۔ صفحہ 97)

حُسْنِ
اخْلَاقِ

جس کا اخلاق اچھا ہو

خداوندِ عالم اُسے (دن کو) روزے دار

اور (رات کو) عبادت گزار کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔

(بخار الانوار۔ جلد 71۔ صفحہ 97 / میزانِ حکمت۔ جلد 3۔ صفحہ 266)



00923332136992

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

جو شخص ماہِ رمضان میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ

درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن

جس دن لوگوں کے اعمال کا پلٹا ہلکا ہوگا

اللہ اُس کے نیک اعمال کے پلٹے کو

بھاری کر دے گا۔۔ (بخاری الانوار جلد 96)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

اے لوگو! جو شخص اس ماہِ مبارک میں
صلہِ رحمی کرے گا خداوندِ عالم قیامت کے دن
اس کو اپنی رحمت کے دائرے میں شامل کرے گا اور جو شخص
قطعِ رحمی کرے گا خداوندِ اپنی رحمت کو
قیامت کے دن اس سے قطع کرے گا۔
(اربعین۔ شیخ بہائیؒ۔ صفحہ 177)

صلہِ رحمی برقرار رکھو چاہے ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کیوں نہ ہو
اور سب سے افضل صلہِ رحمی یہ ہے
کہ اپنے قرابتداروں سے اذیت و تکلیف کو دور کرو۔
(سفینۃ البحار، جلد 1۔ صفحہ 513)



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

سکراتِ موت میں آسانی

شیخ صدوقؒ امام جعفر صادقؑ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسے سکراتِ موت سے بچائے اُسے چاہئے کہ وہ

- ✦ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے
- ✦ والدین سے نیکی کرے

جو شخص بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اُس شخص پر موت کی سختی کو آسان کر دے گا اور وہ کبھی اپنی زندگی میں کبھی مفلس نہ ہوگا

(منازلِ الاخرہ - شیخ عباس قمی)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



ماہِ رمضان
کی پُر نور راتوں
سے بھر پور فائدہ اٹھائیے



ایک رات میں ہزار رکعات نماز ادا کرنے کا طریقہ

مولا علیؑ نے رسول اللہ ﷺ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ کل میں نے ایک ہزار رکعات نماز پڑھیں تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا وہ کس طرح۔؟

تو مولا علیؑ نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ جملہ کہے کہ

يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ بِعِزَّتِهِ

اس کو ہزار رکعات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا۔

(مستدرک الوسائل، ج 5، ص 49، ح 21)



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

نمازِ شب کی پابندی کیجئے

رات کی سواری

امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا

خداوندِ عالم تک رسائی

ایک ایسا سفر ہے

جو رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر

طے نہیں ہو سکتا۔

(بحار الانوار۔ جلد 78۔ صفحہ 380)



نمازِ شب

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim



ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

چھوٹا عمل عظیم ثواب

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

جو شخص کہے سبحان اللہ و بحمدہ

خدا اُس کے لئے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے

اُس کے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے

اُس کے 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے

اور جو یہ ذکر زیادہ کرے تو اللہ اُس کو اور زیادہ عطا کرے گا

(کتاب: علل الشرائع . شیخ صدوق)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



facebook.com/madrasatulqaaim

+923332136992

رمضانِ مبارک

ماہِ رمضان کی راتوں سے بھر پور فائدہ اٹھائیے
دیگر اعمال کے ساتھ یہ عمل بھی انجام دیجئے

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

”جو نمازِ عشاء کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرے گا تو
(یہ دو آیات) اُس کی رات بھر کی عبادت کے لئے کافی ہیں۔“

(شفا و درمان با قرآن)
مجتبیٰ رضایی

اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ قَدْ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ قَدْ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝
لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وَاُسْعَهَا ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اَكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الدّٰيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ج
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ج وَاَعْفُ عَنَّا رَحْمَةً وَاغْفِرْ لَنَا رَحْمَةً وَاَرْحَمْنَا رَحْمَةً
اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



رمضان
شہادہ



حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

سحری کھا کر روزہ رکھنے میں اور دوپہر میں
قیلولہ کر کے رات کو جاگنے میں مدد لو۔۔

(وافی ج ۲ کتاب الصیام)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

تسبیحاتِ اربعہ کا ایک عظیم فائدہ

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

اگر راہِ خدا میں خرچ کرنے کی

گنجائش نہیں اور رات کو بیدار

ہو کر عبادت نہیں کر سکتے تو

سبحان اللہ والحمد للہ

ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر

کہنے میں بخل نہ کرو۔

(بحوالہ کتاب: جنت - آیت اللہ دستغیب شیرازی)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

بے فائدہ روزہ

حضرت امام علیؑ نے فرمایا

کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اُنکے روزے سے

صرف بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا

اور کتنے ہی شب زندہ دار ایسے ہیں

جن کو اُن کی شب زندہ داری سے

سوائے بے خوابی کے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔

(نہج البلاغہ۔ باب الحکمت ۱۴۵)



www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

امام رضا علیہ السلام نے فرمایا

اگر کوئی شخص اس مہینہ (رمضان) میں کسی مومن کی مدد کرے

تو خدا قیامت کے دن پل صراط پر اس کی مدد کرے گا

جس دن تمام قدم لرزیں گے۔

علیہ السلام
صراط

رمضان

اگر کوئی شخص کسی مظلوم کی مدد کرے

تو خدا دنیا میں اُس کی اُس کے دشمنوں کے خلاف مدد کرے گا

اور قیامت میں حساب اور میزان کے وقت اُس کی مدد کرے گا۔

(بخارا الانوار۔ جلد 96۔ صفحہ 341)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



امیر المؤمنین امام علیؑ نے فرمایا

روزہ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں
بلکہ روزہ یعنی ہر اُس چیز کو ترک کر دینا
جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ (تجلیاتِ حکمت)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

امیر المؤمنین امام علیؑ نے فرمایا

تمہارے اوپر لازم ہے کہ

ماہِ رمضان میں کثرت سے استغفار اور
دعا کرو کیونکہ دعا تم پر سے بلاؤں کو دور
کرتی ہے اور استغفار تمہارے گناہوں

کو مٹا دیتا ہے۔۔

(بخارالانوار جلد 93)

MADRASA-TUL-QAAIM (A.S.)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

جب کوئی بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے

تو اُس کا صحیفہ عمل

چمکتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔

.....(عدۃ الداعی، علامہ احمد بن فہد حلّی).....

گناہوں کو ترک کر کے عظمت حاصل کرو۔

(ہدیۃ الشیعہ)

حضرت امام علی علیہ السلام
نے فرمایا

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے تمہیں استغفار سکھایا ہی
اس لئے ہے کہ وہ تمہاری مغفرت کرے۔۔
(مجموعہ درام جلد ۱ ص ۵)

استغفر اللہ

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

جو شخص زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے اُسے ہر غم اور دکھ سے کشائش حاصل ہوتی ہے اور
ہر تنگی سے نجات ملتی ہے۔ نیز اُسے ایسے ذریعوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے ملنے کا گمان بھی نہ ہو۔۔

(بحار الانوار جلد ۷)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

روزہ دار چاہے بستر پر

سو یا ہوا ہی کیوں نہ ہو،

عبادت کی حالت میں

ہے، جب تک وہ کسی

کی غیبت نہ کرے۔



اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا



(تحف العقول)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

غیبت کرنے والا

اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا
اور

اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا

(مستدرک الوسائل۔ محدث نوری۔ جلد ۹)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

دعا سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عزیز نہیں

(رسول اللہ ﷺ - ہدیۃ الشیعہ)



اے ابا ذرؓ! نیک کردار کے ساتھ دعا مانگنا اتنا ہی کافی ہے

جتنا طعام (کھانے) کیلئے نمک کی مقدار کافی ہوتی ہے۔



(رسول اللہ کی وصیت ابو ذر غفاریؓ کے نام)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

سجدے زیادہ کیا کرو کیونکہ سجدہ گناہوں کو
اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے
پتوں کو جھاڑتی ہے۔۔ (امالی صدوق)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



رمضان

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

پیشک اللہ تعالیٰ ماہِ رمضان کی رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے سوائے اُس شخص کے کہ جس نے

نشے والی چیز سے افطار کیا ہو یا

(اپنے دل میں) بغض و عداوت رکھنے والا ہو۔۔۔۔

(ثواب الاعمال ، شیخ صدوقؒ)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

رمضان کریم

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

ماہِ رمضان میں اپنے مساکین

اور فقراء کو صدقہ دو

اپنے بوڑھوں کی تعظیم، چھوٹوں پر رحم

اور رشتہ داروں پر مہربانی کرو

(مفاتیح الجنان)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا

جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اُس کا بستر مثلِ مسجد ہے اور اُس کی نیند عبادت ہے
اگر بغیر وضو سوتا ہے تو اُس کا بستر مثلِ قبر اور وہ خود مثلِ مُردار ہوتا ہے۔
(مستدرک الوسائل۔ جلد 01۔ صفحہ 42)



www.facebook.com/madrasat



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

MADRASA-T
www.facebook.com/madrasat

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

سوتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت

جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے

خداوندِ عالم فرماتا ہے: اے میرے ملائکہ! صبح تک اس کے سانس لکھتے رہو
تا کہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے

(جامع الاخبار - شیخ صدوق)



MADRASA-TUL-QAAIM (A.S.)
مدرسة القائم



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

صدقہ



امام جعفر صادقؑ سے مروی ہے کہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہر ایک چیز لینے کیلئے

میں نے دوسرے کو موکل کیا ہے مگر صدقہ میں خود اپنے ہاتھ سے لیتا ہوں

جو کوئی ایک یا آدھا خرما صدقہ کرتا ہے تو میں اُس صدقہ کو گھوڑے کے بچے کی مانند

تربیت و پرورش کرتا ہوں۔ جب قیامت میں ملاقات ہوگی تو صدقہ دینے والا دیکھے گا

کہ وہ مثلِ کوہِ اُحد کے بڑا ہو گیا ہے۔۔ (معراج السعادة)

+923332136992

facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



حضرت رسولِ خدا ﷺ نے فرمایا



صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے
تو **صدقہ** اس وقت پانچ جملے کہتا ہے

۱ ← میں فانی مال تھا تم نے مجھے عظیم بقا دے دی

۲ ← میں دشمن تھا اب تم نے مجھے دوست بنا دیا

۳ ← میں حقیر تھا تم نے مجھے عظیم بنا دیا

۴ ← آج سے پہلے تم میری حفاظت کرتے تھے
اب میں تمہاری حفاظت کروں گا

۵ ← پہلے میں تمہارے ہاتھ میں تھا
اب میں خدا کے ہاتھ میں ہوں

(ہدیۃ الشیعہ)



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

صدقہ

صدقہ سے
صحت یابی

رسول خدا ﷺ نے فرمایا

اپنے بیماروں کا علاج

صدقہ کے ذریعہ کرو۔

(وسائل الشیعہ جلد ۴ ص ۲۵۷)

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا

مستحب ہے کہ

بیمار اپنے ہاتھ سے صدقہ دے

اور سائل سے یہ کہا جائے کہ

وہ اس کیلئے دعا کرے۔۔

(وسائل الشیعہ جلد ۴ ص ۲۴۲)



www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا:
پروردگار! مجھے بندہ سے اپنی رضا و خوشنودی کی علامت بتائیں؟
خداوندِ عالم نے اُن کی طرف وحی فرمائی:

رمضان

جب تم دیکھو کہ میں

اپنے بندہ کو اپنی اطاعت کے لئے آمادہ کرتا ہوں

اور اپنی نافرمانی سے روکتا ہوں

تو اس سے سمجھ لو کہ اس میں میری رضا ہے۔

(بحار الانوار۔ جلد 70۔ صفحہ 26)

ماہِ رمضان میں بہترین عمل گناہوں سے بچنا ہے۔

(بحار الانوار۔ جلد 96)

حضرت
رسولِ خدا
نے فرمایا

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

غصّہ دیوانگی ہے

حضرت امام علیؑ نے فرمایا

غصّہ ایک قسم کی دیوانگی ہے
کیونکہ غصّہ کرنے والا بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے
اور اگر پشیمان نہ ہو تو اُس کی دیوانگی پختہ ہے۔

(بحار الانوار۔ جلد 73۔ صفحہ 266)

غصّہ سے ڈرو

کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے
ایک بڑا لشکر ہے۔

(سج البلاغہ۔ مکتوب 69)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

امام جعفر صادق
نے فرمایا

ماہِ مبارک رمضان کی ہر رات
اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو
آگ سے نجات عطا فرماتا ہے
لیکن، شطرنج کھیلنے والا
اس عنایتِ ربانی سے
محروم رہتا ہے۔

(وسائلِ الشیعہ - باب 102)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



رمضان کی تکلیفیں

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا

ان چار افراد کا روزہ کامل نہیں ہے:

1 وہ شخص جو امام کی نافرمانی کرے۔

2 فرار شدہ غلام جب تک وہ واپس نہ آئے۔

3 وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے جب تک توبہ نہ کرے۔

4 وہ فرزند جو عاق والدین ہوا ہو جب تک والدین کی اطاعت نہ کرے۔

(بحار الانوار، ج 93، ص 295)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



facebook.com/madrasatulqaaim

+923332136992



رمضان مبارک

سفرِ معراج پر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے فرمایا:

اے احمد! میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عبادت خاموشی اور روزہ ہے۔

تو جو شخص روزہ رکھے لیکن اپنی زبان کو نہ روکے وہ اُس شخص کی مانند ہے جو

نماز کیلئے کھڑا ہو اور نماز میں قرأت نہ کرے تو میں اُس کو قیام کا تو اجر دوں گا

لیکن عبادت کرنے کا اجر نہیں دوں گا۔۔ (ارشاد القلوب۔ دیلمی)



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سجدہ شکر کا طریقہ



آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیریؒ بیان کرتے ہیں کہ



سجدے میں پیشانی رکھ کر 3 مرتبہ کہیں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ،

پھر پیشانی کا دائیں حصہ سجدے میں رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں شُکراً لِلّٰہ،

پھر پیشانی کا بائیں حصہ سجدے میں رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں استغفر اللہ۔

یہی وہ سجدہ شکر کا طریقہ ہے جسے مسلسل انجام دینے سے

حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے درجے تک پہنچے۔



(بحوالہ کتاب: روح وریحان)

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟



حضرت حذیفہ یمانیؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوں گے

کہ اُن کی نیکیاں پہاڑ کی مانند دکھائی دیں گی

لیکن اللہ تعالیٰ اُن کی نیکیوں کو غبار بنا کر اُڑا دے گا

پھر انہیں دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اُس وقت سلمان فارسیؓ اُٹھے اور کہا

اے اللہ کے رسول ﷺ ذرا وضاحت فرمائیے یہ کون لوگ ہوں گے۔؟

آپ ﷺ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہوں گے،

روزہ رکھتے ہوں گے اور تہجد گزار ہوں گے۔ اُن میں یہ عیب ہوگا کہ

جب اُن کے سامنے حرام آتا تھا تو فوراً انجام دے دیتے تھے۔۔



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

.....(مستدرک الوسائل۔ میرزا حسین نوری).....



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

رسول ﷺ خدا نے جابر بن عبد اللہ انصاریؓ سے فرمایا

اے جابرؓ! یہ مہینہ رمضان کا ہے۔

جو اس ماہ کے دنوں میں روزہ رکھے،

رات کے کچھ حصے عبادت میں گزارے،

اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے

تو اس مہینے کے اختتام پر وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔

جابرؓ نے عرض کی: یا رسول ﷺ اللہ کتنی اچھی حدیث ہے۔

فرمایا: ہاں جابرؓ مگر شرائط بھی تو کتنی سخت ہیں۔۔

(بخاری الانوار جلد 97 ص 371)



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim

ماہِ رمضان۔۔ کیا کریں، کیا نہیں۔؟

کیا بے حجابی کے ساتھ روزہ صحیح ہے؟

اگر کوئی عورت نامحرم کے سامنے حجاب نہ کرے
تو اگرچہ وہ گناہ گار ہوگی لیکن اسکا روزہ صحیح ہے۔

البتہ قبولیتِ روزہ کے لئے اُسکو چاہیے کہ روزہ رکھے
بے حجابی پر اللہ سے توبہ کرے
لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔

رمضان مبارک



00923332136992

www.facebook.com/madrasatulqaaim



+923332136992



facebook.com/madrasatulqaaim